

# Table of Translation & Transliteration of Salat

## Niyya - Intention (for Prayer)

نِيَّة

Wajjahtu waj-hiya lilla-dhee			وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي		
I have turned my full attention towards Him Who			میں نے اپنی پوری توجہ کر دی اس ہستی کی طرف جس نے		
lilla-dhee	لِلَّذِي	waj-hiya	وَجْهِيَ	Wajjahtu	وَجَّهْتُ
towards Him Who	اس ہستی کی طرف	my full attention	پوری توجہ اپنی	I have turned	میں نے توجہ کر دی

fataras-samaawaati wal arda haneefan				فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا		
has created the heavens and the earth, being ever-inclined to Him				پیدا کیا آسمان اور زمین کو خالص ہو کر		
haneefan	حَنِيفًا	wal arda	وَالْأَرْضَ	as-samaawaati	السَّمَوَاتِ	fatara
being ever-inclined	خالص ہو کر	and the earth	اور زمین	The heavens	آسمانوں	has created
						پیدا کیا

wa maa ana minal mushrikeen				وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ			
and I am not one of those who associate partners with Allah				اور نہیں ہوں میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں میں سے۔			
al mushrikeen	الْمُشْرِكِينَ	min	مِنَ	ana	أَنَا	wa maa	وَمَا
who associate partners (with Allah)	(اللہ کا) شریک ٹھہرانے والوں	(one) of those	سے	I am	میں	and not	اور نہیں

## Thanaa'

تَنَاء

Subhaanak-Allahum-ma wa bihamdi-ka			سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ		
Holy are You, O Allah, the Praiseworthy			پاک ہے تو اے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ		
wa bihamdi-ka	وَبِحَمْدِكَ	Allahum-ma	اللَّهُمَّ	Subhaanak	سُبْحَانَكَ
the Praiseworthy	اور تعریف کے ساتھ تیری	O Allah	اے اللہ	Holy are You	پاک ہے تو

wa tabaara-kasmu-ka wa ta-`aalaa jadduka				وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ			
and blessed is Your name and exalted is Your Majesty				اور برکت والا ہے تیرا نام۔ اور بلند ہے تیری شان۔			
jadduka	جَدُّكَ	wa ta-`aalaa	وَتَعَالَى	Ismu-ka	اسْمُكَ	watabaaraka	وَتَبَارَكَ
Your Majesty	شان تیری	and exalted	اور بلند	Your name	نام تیرا	and blessed is	اور برکت

wa laa ilaaha ghairuk				وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ط			
and there is none worthy of worship besides You				اور کوئی عبادت کے لائق ہستی نہیں تیرے سوا۔			
ghairuk	غَيْرُكَ	ilaaha	إِلَهَ	walaa	وَلَا		
besides You	سوائے تیرے	worthy of worship	عبادت کے لائق	and (there is) none	اور نہیں		

**At-ta'awwuz****التَّعَوُّذُ**

A'oodhu biLlahi minash-shaitaanir-rajeem				أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ			
I seek refuge with Allah from Satan the rejected				میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی مدد کے ساتھ رائدے ہوئے شیطان سے۔			
ar-rajeem	الرَّجِيمِ	minash-shaitaani	مِنَ الشَّيْطَانِ	biLlahi	بِاللَّهِ	A'oodhu	أَعُوذُ
the rejected	رائدہ (دھتکارا) ہوا	from Satan	شیطان سے	with Allah	ساتھ اللہ کے	I seek refuge	میں پناہ مانگتا ہوں

**Surah Al-Fatihah****سُورَةُ الْفَاتِحَةِ**

BismiLlahiRahmaan-ir-Raheem				بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٥			
In the name of Allah the Gracious, the Merciful				اللہ کے نام کے ساتھ (شروع کرتا ہوں) جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے			
Ar-raheemi	الرَّحِيمِ	Ar-rahmaani	الرَّحْمَنِ	Allahi	اللَّهُ	Bismi	بِسْمِ
the Merciful	اور بار بار رحم کرنے والا	the Gracious	جو نہایت مہربان	of Allah	اللہ	In the name	ساتھ نام

Al-hamdu liLlahi rabbi-'aalameen				الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝			
All praise belongs to Allah, Lord of all the worlds				تمام حمد اللہ ہی کیلئے ہے رب ہے تمام جانوں کا			
al-'aalameena	الْعَالَمِينَ	rabbi	رَبِّ	liLlahi	لِلَّهِ	Al-hamdu	الْحَمْدُ
of All the Worlds	تمام جہانوں کا	Lord	جو رب (ہے)	belongs to Allah	اللہ کے لیے	all praise	تمام حمد (تعریف)
Ar-Rahmaanir-Raheem				الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝			
The Gracious, the Merciful				جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے			
Ar-raheemi	الرَّحِيمِ		Ar-Rahmani	الرَّحْمَنِ			
the Merciful	بار بار رحم کرنے والا		the Gracious	نہایت مہربان			
Maaliki yaumid-deen				مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝			
Master of the Day of Judgement				مالک ہے جزا سزا کے دن کا			
addeeni	الدِّينِ		yaumi	يَوْمِ	Maliki	مَلِكِ	
of Judgment	جزا سزا (کا)		of the Day	دن	Master	مالک	
Iyyaaka na`budu wa iyyaaka nasta`een				إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝			
You alone do we worship and You alone do we beseech for help				تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں			
nasta`een	نَسْتَعِينُ	wa iyyaaka	وَإِيَّاكَ	na`budu	نَعْبُدُ	Iyyaaka	إِيَّاكَ
do we beseech for help	ہم مدد چاہتے ہیں	and You alone	اور تجھ ہی سے	do we worship	ہم عبادت کرتے ہیں	You (alone)	تیری ہی
Ihdinas-siraatal-mustaqeem				إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝			
Guide us to the right path.				دکھا ہمیں راستہ سیدھا			
al-mustaqeem	الْمُسْتَقِيمَ	as-siraata	الصِّرَاطَ	Ihdinaa	إِهْدِنَا		
right	سیدھا	the path	راستہ	Guide us to	دکھا ہمیں		

Siraatalla-dheena an`amta `alai-him				صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝			
The path of those upon whom You have bestowed Your blessings				راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔			
`alai-him	عَلَيْهِمْ	an`amta	أَنْعَمْتَ	alla-dheena	الَّذِينَ	Siraat	صِرَاطَ
upon whom	جن پر	You have bestowed Your blessings	تو نے انعام کیا	of those	ان لوگوں کا	the path	راستہ

ghairil-maghdooobi `alaihim wa lad-daal-leen				غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝			
not of those who have incurred Your displeasure, nor of those who have gone astray (Aa-meen)				نہ کہ ان لوگوں کا (راستہ) جن پر تیرا غضب ہوا۔ اور نہ ہی ان لوگوں کا جنہوں نے گمراہی اختیار کی۔ (آمین)			
wa lad-daal-leen	وَالضَّالِّينَ	alaihim	عَلَيْهِمْ	al-maghdooobi	الْمَغْضُوبِ	ghairi	غَيْرِ
nor of ( those) who have gone astray	اور نہ گمراہ لوگ	on them	جن پر	who have incurred (Your) displeasure	غضب ہوا	not (of those)	نہ (کہ)

### Surah Al-Ikhlaas

### سُورَةُ الْإِخْلَاصِ

BismiLlahi-r-Rahmanir Raheem				بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝			
In the name of Allah, the Gracious, the Merciful				اللہ کے نام کے ساتھ (شروع کرتا ہوں) جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے			
ar-Raheem	الرَّحِيمِ	ar-Rahmani	الرَّحْمَنِ	Allahi	اللَّهُ	Bismi	بِسْمِ
the Merciful	(اور) بار بار رحم کرنے والا (ہے)	the Gracious	(جو) نہایت مہربان	Allah	اللہ (کے)	in the name	ساتھ نام

Qul Huw-Allahu Ahad				قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝			
Say, He is Allah, the One				تو کہہ وہ اللہ ایک ہے			
Ahad	أَحَدٌ	Allahu	اللَّهُ	Huwa	هُوَ	Qul	قُلْ
the One	(ایک) ہے	(is) Allah	اللہ	He	وہ	Say	تو کہہ

Allah-us-Samad	اللَّهُ الصَّمَدُ		
Allah, the Independent and Besought of all	اللہ تعالیٰ کے سب محتاج ہیں (وہ بے نیاز ہے)۔		
as-Samad	الصَّمَدُ	Allaahu	اللَّهُ
the Independent and Besought of all	بے احتیاج ہے	Allah	اللہ

Lam yalid wa lam yoolad	لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ		
He begets not, nor is He begotten	نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا		
wa lam yoolad	وَلَمْ يُولَدْ	Lam yalid	لَمْ يَلِدْ
nor is He begotten	اور نہ وہ جنا گیا	He begets not	نہیں اس نے جنا

wa lam ya-kullahoo kufuwan ahad	وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ		
and there is none like unto Him	اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی بھی		
kufuwan ahad	كُفُوًا أَحَدٌ	wa lam ya-kullahoo	وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
like unto Him	ہمسر کوئی بھی	and there is none	اور نہیں ہے اس کا

## رُكُوعٌ

### Rukoo'

Subhaana Rabbi-yal `Azeem	سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ط			
Holy is my Lord, the Most Great	پاک ہے میرا رب بڑی عظمت والا ہے			
al `Azeem	الْعَظِيمِ	Rabbi	رَبِّيَ	Subhaana
the Most Great	بڑی عظمت والا	my Lord	میرا رب	Holy is

## تَسْمِيعٌ

### Tasmee'

Sami'-Allaahu liman hamidah	سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ط			
Allah hears him who praises Him	سن لی اللہ تعالیٰ نے اسکی (دعا) جس نے اس کی تعریف کی۔			
hamidah	حَمِدَهُ	liman	لِمَنْ	Allaahu
praises Him	تعریف کی اسکی	who him	اسکی جس نے	Allah

## تَحْمِيد

## Tahmeed

Rabbanaa wa lakal hamd		رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ			
Our Lord, Yours is the praise		اے ہمارے رب سب تعریف تیرے ہی لئے ہے۔			
al hamd	الْحَمْدُ	wa laka	وَ لَكَ	Rabbanaa	رَبَّنَا
the praise	(سب) تعریفیں	Yours is	تیرے لئے	Our Lord	ہمارے رب

hamdan katheeran tayyiban mubaarakan feeh		حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيهِ ط			
praise that is abundant, pure and full of blessings		بہت زیادہ تعریف۔ پاکیزہ اور برکت والی۔			
mubaarakan-feeh	مُبَارَكًا فِيهِ	tayyiban	طَيِّبًا	katheeran	كَثِيرًا
(and) full of blessings	برکت والی	pure	پاکیزہ	(that is) abundant	بہت زیادہ
				praise	تعریف

## Sajdah

## سُجْدَةٌ

Subhaana Rabbi yal a`laa		سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى			
Holy is my Lord, the Most High		پاک ہے میرا رب جو بڑی شان والا ہے۔			
al a`laa	الْأَعْلَى	Rabbiya	رَبِّيَ	Subhaana	سُبْحَانَ
the Most High	بلند شان والا (ہے)	my Lord	میرا رب	Holy	پاک

## Prayer between two Sajdahs

## دو سجدوں کے درمیان کی دُعا

Rabigh-fir-lee warham-nee		رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي			
O my Lord, forgive me and have mercy on me		اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما			
warham-nee	وَارْحَمْنِي	igh-fir-lee	اغْفِرْ لِي	Rabi	رَبِّ
have mercy on me	اور رحم کر مجھ پر	forgive me	بخش دے مجھے	my Lord	اے میرے رب

wa-hdi-nee wa'aafi-nee waj-bur-nee			وَاهِدْنِي وَ عَافِنِي وَ اجْبُرْنِي		
and guide me and grant me security make good my shortcomings			اور ہدایت دے مجھے اور خیریت سے رکھ مجھے اور اصلاح کر میری		
waj-bur-nee	وَ اجْبُرْنِي	wa aafi-nee	وَ عَافِنِي	wa-hdi-nee	وَاهِدْنِي
and make good my shortcomings	اور اصلاح کر میری	and grant me security	اور خیریت سے رکھ مجھے	and guide me	اور ہدایت دے مجھے

wa-rzuq-nee wa-rfa`-nee			وَ ارْزُقْنِي وَ ارْفَعْنِي		
and provide for me and raise me up (in status)			اور مجھے رزق عطا کر اور (رتبہ) بلند کر میرا۔		
wa-rfa`-nee	وَ ارْفَعْنِي	wa-rzuq-nee	وَ ارْزُقْنِي		
and raise me up (in status)	اور (رتبہ) بلند کر میرا	and provide for me	اور رزق عطا کر مجھے		

**At-Tashah-hud**

التَّشَهُّدُ

at-tahiyyaatu liLlahi			التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ		
All verbal worship is due to Allah			تمام زبانی عبادات اللہ کے لئے ہیں۔		
liLlahi	لِلّٰهِ	at-tahiyyaatu	التَّحِيَّاتُ		
is due to Allah	اللہ کیلئے ہیں	All verbal worship	سب زبانی عبادات		

was-salawaatu wat-tayyibaatu			وَ الصَّلَوْتُ وَ الطَّيِّبَاتُ		
and all physical acts of worship and financial sacrifices			اور بدنی اور مالی عبادات (بھی)۔		
wat-tayyibaatu	وَ الطَّيِّبَاتُ	was-salawaatu	وَ الصَّلَوْتُ		
and all financial sacrifices	اور سب مالی عبادات	and all physical worship	اور سب بدنی عبادات		

as-salaamu `alaika ayyuhan-nabiyyu			السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ		
Peace be on you, O Prophet			اے نبی آپ پر اللہ کی سلامتی ہو		
An-nabiyyu	النَّبِيِّ	ayyuha	أَيُّهَا	عَلَيْكَ	السَّلَامُ
Prophet	نبی	O!	اے	آپ پر	سلامتی

wa rahmat-Ullahi wa barakaatuhoo		وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ			
and the Mercy of Allah and His Blessings		اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکات			
wa barakaatuhoo	وَ بَرَكَاتُهُ	Allahi	اللَّهُ	wa rahmatu	وَ رَحْمَةُ
and His Blessings	اور برکات اس کی	of Allah	اللہ (کی)	and the Mercy	اور رحمتیں

as-slaamu `alainaa	السَّلَامُ عَلَيْنَا
Peace be on us	(اللہ) کی سلامتی ہو ہم پر (بھی)۔

wa 'alaa `ibaadi-Llahi-ssaaliheen		وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ط			
and on the righteous servants of Allah		اور اللہ کے نیک بندوں پر۔			
hi-ssaaliheen	الصَّالِحِينَ	i-Llahi	اللَّهُ	wa 'alaa `ibaadi	وَ عَلَى عِبَادِ
the righteous	نیک	of Allah	اللہ (کے)	and on the servants	اور بندوں پر

Ash-hadu allaa ilaaha illAllahu		أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ				
I bear witness that there is no God but Allah		میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی ہستی عبادت کے لائق نہیں				
illAllahu	إِلَّا اللَّهُ	ilaaha	إِلَهَ	allaa	أَنْ لَا	Ash-hadu
except Allah	سوائے اللہ (کے)	God (worthy of worship)	معبود	(there is ) no - that	کہ نہیں (کوئی)	I bear witness
						اور میں گواہی دیتا ہوں

wa ash-hadu anna Muhammadan `abduhoo wa rasooluh		وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، وَ رَسُولُهُ ط				
and I bear witness that Muhammad is His Servant and Messenger		اور میں گواہی دیتا ہوں کہ (حضرت) محمدؐ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں				
wa rasooluh	وَ رَسُولُهُ	abduhoo	عَبْدُهُ	Muhammadan	مُحَمَّدًا	anna
and His Messenger	اور رسول اس کے	is His Servant	بندے اس کے	Muhammad <sup>saw</sup>	محمدؐ	that
						کہ
						and I bear witness
						اور میں گواہی دیتا ہوں



درود شریف

**Salat 'alan Nabee**

Allah-umma salli `alaa Muhammadin					اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ		
O Allah, bless Muhammad <sup>saw</sup>					اے اللہ محمدؐ پر خاص فضل فرما		
Muhammadin	مُحَمَّدٍ	alaa	عَلَى	salli	صَلِّ	Allah-umma	اللَّهُمَّ
Muhammad <sup>saw</sup>	محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)	upon	پر	bless	فضل کر	Oh Allah	اے اللہ

wa `alaa aali Muhammadin					وَّ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ		
and the people of Muhammad <sup>saw</sup>					اور محمدؐ کی آل پر بھی۔		
Muhammadin	مُحَمَّدٍ	aali	آلِ	wa `alaa	وَّ عَلَى		
(of) Muhammad <sup>saw</sup>	محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)	people	آل	and upon	اور پر		

kamaa sallaita `alaa Ibraheema					كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ		
as You did bless Abraham <sup>as</sup>					جیسے تو نے ابراہیمؑ پر فضل فرمایا		
Ibraheema	إِبْرَاهِيمَ	`alaa	عَلَى	sallaita	صَلَّيْتَ	kamaa	كَمَا
Abraham <sup>as</sup>	ابراہیمؑ	on	پر	You did bless	تو نے فضل فرمایا	as	جیسے (جو)

wa `alaa aali Ibraheema					وَّ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ		
and the people of Abraham <sup>as</sup>					اور ابراہیمؑ کی آل پر۔		
Ibraheema	إِبْرَاهِيمَ	aali	آلِ	wa `alaa	وَّ عَلَى		
(of) Abraham <sup>as</sup>	ابراہیمؑ	people	آل	and upon	اور پر		

innaka Hameed-um-Majeed			إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ط		
You are indeed the Praiseworthy, the Exalted			یقیناً تو بے انتہا خوبیوں والا بڑی شان والا ہے۔		
Majeed	مَّجِيدٌ	Hameed-um	حَمِيدٌ	innaka	إِنَّكَ
the Exalted	(بڑی) شان والا	the Praiseworthy	(بڑی) حمد والا	You are indeed	یقیناً تو

Allah-umma baarik `alaa Muham-madin			اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ		
O Allah, prosper Muhammad <sup>saw</sup>			اے اللہ تو برکات نازل فرما محمدؐ پر		
Muham-madin	مُحَمَّدٍ	`alaa	عَلَى	baarik	بَارِكْ
Muhammad <sup>saw</sup>	محمد (ﷺ)	upon	پر	prosper	برکات نازل فرما
			Allah-umma		
			O Allah		
			اے اللہ		

wa `alaa aali Muhammadin			وَّ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ		
and the people of Muhammad <sup>saw</sup>			اور محمدؐ کی آل پر بھی		
Muhammadin	مُحَمَّدٍ	aali	آلِ	wa `alaa	وَّ عَلَى
(of) Muhammad <sup>saw</sup>	محمد (ﷺ)	people	آل	and upon	اور پر

kama baarakta `alaa Ibraheema			كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ		
as You did prosper Abraham <sup>as</sup>			جیسے تو نے ابراہیمؑ پر برکات نازل فرمائی		
Ibraheema	إِبْرَاهِيمَ	`alaa	عَلَى	baarakta	بَارَكْتَ
Abraham <sup>as</sup>	ابراہیمؑ	upon	پر	You did prosper	تو نے برکات نازل فرمائیں
			kama		
			as		
			جیسے (جو)		

wa `alaa aali Ibraheema			وَّ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ		
and the people of Abraham <sup>as</sup>			اور ابراہیمؑ کی آل پر		
Ibraheema	إِبْرَاهِيمَ	aali	آلِ	wa `alaa	وَّ عَلَى
(of) Abraham <sup>as</sup>	ابراہیمؑ	people	آل	and upon	اور پر
			پیروی کرنے والے		

innaka Hameed-um-Majeed		إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ -			
You are indeed the Praiseworthy, the Exalted		یقیناً تو بے انتہا خوبیوں والا بڑی شان والا ہے			
Majeed	مَّجِيدٌ	Hameed-um	حَمِيدٌ	innaka	إِنَّكَ
the Exalted	(بڑی) شان والا	the Praiseworthy	(بڑی) حمد والا	You are indeed	یقیناً

### Concluding Prayers (before Salaam)

Rabbanaa aatinaa fid-dunya hasanatanw		رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً					
Our Lord, grant us good in this world		اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں (ہر قسم کی) بھلائی عطا فرما					
hasanatanw	حَسَنَةً	fid-dunya	فِي الدُّنْيَا	aatinaa	آتِنَا	Rabbanaa	رَبَّنَا
good	بھلائی	in this world	دنیا میں	grant us	عطا فرما ہمیں	Our Lord	رب ہمارے

wa fil-`akhirati hasanatanw		وَّ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً					
as well as good in the world to come		اور اگلے جہان میں بھی بھلائی (عطا فرما)					
hasanatanw	حَسَنَةً	`akhirati	فِي الْآخِرَةِ	fil	فِي	wa	وَّ
good	بھلائی	the world to come	اگلا جہان (آخرت)	in	میں	as well as	اور

wa qinaa `azaaban-naar		وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ					
and protect us from the torment of the Fire		اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا					
naar	النَّارِ	`azaaban	عَذَابَ	wa qinaa	قِنَا	وَّ	وَّ قِنَا
of the Fire	(آگ کے)	from the torment	عذاب	and protect us	اور بچا ہمیں		

Rabbij-al-nee muqeeem-as-salaati		رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ					
My Lord, make me observe Prayer		اے میرے رب مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا					
as-salaati	الصَّلَاةِ	muqeeem-	مُقِيمَ	aj-al-nee	اجْعَلْنِي	Rabbi	رَبِّ
Prayer	نماز	observe	قائم کرنے والا	make me	بنا مجھے	My Lord	(اے) رب میرے

wa min dhurriyatee	وَمِنْ ذُرِّيَّتِي		
and make my children too	اور میری اولاد کو بھی۔		
dhurriyatee	ذُرِّيَّتِي	wa min	وَمِنْ
my children	اولاد میری	and from among	اور سے

Rabbanaa wa taqabbal du`aa	رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ۔			
Our Lord, and accept my prayer	اے ہمارے رب تو میری دعا کو قبول فرما۔			
du`aa	دُعَاءِ۔	wa taqabbal	وَتَقَبَّلْ	Rabbanaa
my prayer	دعا میری	and accept	تو قبول فرما	Our Lord

Rabba-naghfir-lee	رَبَّنَا اغْفِرْ لِي			
Our Lord, grant forgiveness to me	اے ہمارے رب، مجھے بخش دے۔			
aghfir-lee	اغْفِرْ لِي	Rabbana	رَبَّنَا	
grant me forgiveness	بخش دے مجھے	Our Lord	رب	

wa li-waali-dayya wa lil-mu'mineena	وَلِوَالِدَيْيَ وَاللِّمَّةِ مِّنِينَ			
and to my parents and to the believers	اور میرے والدین کو (بھی) اور (سب) مومنوں کو (بھی)			
wa lil-mu'mineena	وَاللِّمَّةِ مِّنِينَ	wa li-waali-dayya	وَلِوَالِدَيْيَ	
and to the believers	اور مومنوں کو	and to my parents	اور والدین کو میرے	

yauma yaqoo-mul-hisaab	يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ			
on the day when the reckoning will take place	جس دن حساب قائم ہوگا			
ul-hisaab	الْحِسَابُ	yaqoo-mu	يَقُومُ	yauma
the reckoning	حساب	will take place	قائم ہوگا	(on) the day

**Salaam**

سَلَام

Assalaamu-alaikum wa Rahmat-Ullah				السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ			
Peace be on you and the blessings of Allah				اللہ کی سلامتی اور اسکی رحمتیں تم پر ہوں۔			
Allah	اللَّهُ	wa Rahmat	وَ رَحْمَةُ	alaikum	عَلَيْكُمْ	Assalaamu	السَّلَامُ
(of) Allah	اللہ (کی)	and the blessings	اور رحمتیں	on you	تم پر	Peace (be)	سلامتی ہو

**Tasbeeh**

تَسْبِيح

Subhaan-Allah				سُبْحَانَ اللَّهِ			
Holy is Allah				اللہ تعالیٰ تمام نقائص سے پاک ہے			
Allah	اللَّهُ	Subhaan	سُبْحَانَ				
Allah	اللہ تعالیٰ	Holy	تم نقائص سے پاک				

Alhamdu-Lillah				الْحَمْدُ لِلَّهِ			
All praise belongs to Allah				تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں			
Lillah	اللَّهُ		Alhamdu-	الْحَمْدُ			
belongs to Allah	اللہ تعالیٰ کے لئے		All praise	تمام خوبیاں			

Allahu Akbar				اللَّهُ أَكْبَرُ			
Allah is the Greatest				اللہ سب سے بڑا ہے			
Akbar	اللَّهُ أَكْبَرُ		Allahu	اللَّهُ			
(is) the Greatest	سب سے بڑا		Allah	اللہ			